



5

4408CH05

حضرت علیؑ کا انصاف

دو مسافر کہیں جا رہے تھے۔

راستے میں کھانے کا وقت ہو گیا۔ انھیں بھوک لگنے لگی۔ ایک مسافر کے پاس پانچ روٹیاں تھیں اور دوسراے مسافر کے پاس تین۔ ابھی انھوں نے کھانا نہیں شروع کیا تھا کہ ایک اور مسافر ادھر سے گزرا۔ انھوں نے اسے بھی کھانے پر بلا لیا۔ اب تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ تیسرا مسافر کھانے کے بعد جانے لگا تو اُس نے ان دونوں کو آٹھ درہم دیے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ آٹھ درہم کیسے بننے جائیں۔ جس مسافر کی پانچ روٹیاں تھیں، اس نے کہا ”پانچ درہم میں لے لوں، میری پانچ روٹیاں تھیں۔ تین درہم تم لے لو کیونکہ تمہاری تین روٹیاں تھیں۔“

جس مسافر کی تین روٹیاں تھیں اس نے کہا ”اس مسافر نے ہم دونوں کے حصے میں سے کھایا ہے، اس لیے ہم دونوں آٹھ درہم برابر برابر بانت لیں۔ چار درہم تم لے لو، چار درہم میں لے لو۔“

اس بات پر دونوں میں بہت جھگڑا ہوا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت علیؑ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ دونوں مسافروں نے سوچا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ حضرت علیؑ سے کروائیں۔ وہ دونوں حضرت علیؑ کے پاس پہنچے۔

حضرت علیؑ نے جب ان کی بات سنی تو اس مسافر سے بولے جس کی تین روٹیاں تھیں ”اگر تم تین درہم لے لو تو فائدے میں رہو گے کیونکہ حساب سے دیکھا جائے تو تمہارے حصے میں صرف ایک درہم آتا ہے۔“

وہ مسافر حیران ہو گیا۔ اس نے کہا ”یہ کیسے ہو سکتا ہے؟“

حضرت علیؑ : ہر روٹی کے تین ٹکڑے کرو تو آٹھ روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟

- پہلا مسافر : آٹھ روٹیوں کے چوبیس ٹکڑے ہوئے۔
- حضرت علیؑ : اب یہ بتاؤ کہ تینوں میں سے ہر ایک کے حصے میں کتنے ٹکڑے آئے؟
- دوسرامسافر : ہر ایک نے آٹھ آٹھ ٹکڑے کھائے۔
- حضرت علیؑ : جس کے پاس کل تین روٹیاں تھیں، مسافر اب تم بتاؤ تمہاری روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟
- مسافر : میری تین روٹیوں کے نو ٹکڑے ہوئے۔
- حضرت علیؑ : تمہارے حصے میں سے اس تیسرا مسافر نے کتنا کھایا؟
- مسافر : میرے نو ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اس نے کھایا۔
- حضرت علیؑ : (دوسرے مسافر سے) اب تم بتاؤ تمہاری پانچ روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟
- مسافر : میری پانچ روٹیوں کے پندرہ ٹکڑے ہوئے۔
- حضرت علیؑ : ان میں سے کتنے ٹکڑے تم نے کھائے اور کتنے ٹکڑے تیسرا مسافر نے؟
- مسافر : ان میں سے آٹھ ٹکڑے میں نے کھائے اور سات ٹکڑے اس مسافر نے کھائے جس نے آٹھ درہم دیے۔
- حضرت علیؑ : اس طرح تم سات درہم لے لو کیونکہ اس نے تمہارے حصے میں سے سات ٹکڑے کھائے اور ایک درہم اپنے ساتھی کو دے دو جس کے حصے میں سے مسافر نے صرف ایک ٹکڑا کھایا۔
- دونوں مسافروں کی سمجھ میں بات آگئی اور انہوں نے حضرت علیؑ کی بات مان لی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت علیؑ کتنے عقل مند تھے۔ انہوں نے کتنا صحیح انصاف کیا۔

مشق

لفظ اور معنی



انصاف : نیائے، فیصلہ کرنا

درہم

عرب ملکوں میں چلنے والا سکہ

خلیفہ

قائم مقام، جانشین

غور کیجیے:



- کسی بھی مسئلے کو سلجنے کے لیے غور و فکر ضروری ہے۔ فیصلہ دلیل اور انصاف کی بنیاد پر بنی ہونا چاہیے۔
- لاچ اور رڑائی بھگڑے سے بچنا چاہیے مل جل کر رہنے والی میں بھلانی ہے۔

سوچیے، بتائیے اور لکھیے:



1 - حضرت علیؑ کون تھے؟

2 - تیرے مسافرنے کھانے کے بعد کیا کیا؟

3 - دونوں مسافر آپس میں کیوں اٹھ رہے تھے؟

4 - دوسرا مسافر حضرت علیؑ کی بات سن کر حیران کیوں رہ گیا؟

5 - تیرے مسافرنے دونوں کے حصے میں سے کتنے کتنے طکڑے کھائے؟

ان جملوں کو صحیح لفظوں سے پورا کیجیے:



- 1 ایک مسافر کے پاس روٹیاں تھیں۔ (سات ر پانچ ر چار)
- 2 تیرے مسافرنے ان دونوں کو درہم دیے۔ (آٹھ ر پھر تین)

- 3 یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت علیؓ مسلمانوں کے تھے۔ (حاکم، خلیفہ، رہا شاہ)
- 4 تمہارے حصے میں صرف آتا ہے۔ (تین دیرہم، ایک دیرہم، دو دیرہم)
- 5 دونوں کی سمجھ میں بات آگئی۔ (مسافروں، دوستوں، رجھائیوں)

ان لفظوں سے جملے بنائیے:



انصاف مسافر درہم روٹی خلیفہ

مندرجہ ذیل سوالوں میں سے ہر ایک کے چار جواب دیے گئے ہیں، صحیح جواب کو نیچے لکھیے:



• دونوں مسافروں میں اس بات پر جھگڑا ہوا کہ:

- 1 ہر ایک کو چار درہم کافی نہ تھے۔
-2 آٹھ درہم مل رہے تھے۔
-3 ایک کو سات اور دوسرے کو ایک درہم مل رہا تھا۔
-4 کس کو کتنے درہم ملنے چاہئیں۔

• دونوں حضرت علیؓ کے پاس کس لیے گئے؟

- 1 ان کو پیسہ دینے۔
-2 ان سے اور پیسہ مانگنے۔
-3 ان سے فیصلہ کروانے۔
-4 ان کو اپنا فیصلہ سنانا۔

• حضرت علیؓ کے فیصلے کے مطابق دوسرے مسافر کے حصے میں کتنے درہم آرہے تھے؟

- | | | |
|---------------|--------------|--------------|
| -1 چار درہم۔ | -2 ایک درہم۔ | -3 تین درہم۔ |
| -4 پانچ درہم۔ | | |

• تیسرا مسافر کب آیا؟

- 1 جب دونوں مسافروں نے کھا پکھے۔
- 2 کھانا شروع کرنے سے پہلے۔
- 3 جب دونوں راستے میں چل رہے تھے۔
- 4 ان میں سے کوئی نہیں۔

• پہلے مسافر نے پانچ درہم کیوں لینے چاہے؟

- 1 کیوں کہ اس کے ساتھی نے تین درہم لے لیے۔
- 2 کیوں کہ وہ زیادہ بڑا تھا۔
- 3 کیوں کہ اس کی پانچ روٹیاں تھیں۔
- 4 کیوں کہ وہ بہت لاپچی تھا۔

ان جملوں کو واقعات کی ترتیب کے مطابق لکھیے :



- یہ اُس زمانے کی بات ہے جب حضرت علیؑ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔
- تیسرا مسافر کھانے کے بعد جانے لگا تو اُس نے ان دونوں کو آٹھ درہم دیے۔
- دونوں مسافروں نے سوچا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ حضرت علیؑ سے کروائیں۔
- ابھی انہوں نے کھانا نہیں شروع کیا تھا کہ ایک اور مسافر ادھر سے گزرا۔
- اگر تم تین درہم لے لو تو فائدے میں رہو گے۔
- ایک مسافر کے پاس پانچ روٹیاں تھیں۔
- انہوں نے حضرت علیؑ کی بات مان لی۔

نچے لکھے ہوئے جملوں میں رنگین لفظوں کے مقابلے کر جملے مکمل کیجیے:



- ابھی انہوں نے کھانا نہیں کیا تھا کہ باقی لوگوں نے ختم کر دیا۔
- اس بات پر دونوں میں بہت ہوا اور بعد میں صلح ہو گئی۔
- اگر تم تین درہم لے لو تو میں رہو گے ورنہ نقصان ہو گا۔

درست املاؤ اے لفظوں پر صحیح (✓) کا نشان لگائیے:



<input type="checkbox"/>	مشافر	<input type="checkbox"/>	مصافر	<input type="checkbox"/>	مسافر
<input type="checkbox"/>	حساب	<input type="checkbox"/>	ہساب	<input type="checkbox"/>	حساب
<input type="checkbox"/>	ہیران	<input type="checkbox"/>	حیران	<input type="checkbox"/>	ہیران
<input type="checkbox"/>	انساف	<input type="checkbox"/>	انشاف	<input type="checkbox"/>	انصاف

اس سبق سے واحد اور جمع چن کر لکھیے:



<input type="checkbox"/>	واحد							
<input type="checkbox"/>	جمع							

اس سبق میں لفظ ”عقلمند“ آیا ہے جو دلخواہی سے مل کر بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ”سمجھدار اُسی“



طرح نچے لکھے ہوئے لفظوں میں ”مند“ لگا کر لفظ بنائیے:

..... احسان هنر صحت
..... دولت ضرورت سلیقہ